

مقیم نے عشا کی نماز قصر پڑھی، تراویح و وتر کے بعد مقیم بونا یاد آیاتو کیا حکم ہے؟

مجیب: مفتی محمد قاسم عطاری

فتویٰ نمبر: 135

تاریخ اجراء: 17 رمضان المبارک 1437ھ / 23 جون 2016ء

دارالافتاء اہلسنت

(دعوت اسلامی)

سوال

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک شخص جو کہ مسافر تھا اس نے مقیم ہونے کے بعد غلطی سے عشا کے فرض دور کعت پڑھ لیے، تراویح اور وتر کی نماز بھی ادا کر لی، رات کو کافی دیر سے یاد آیا کہ میں، تو مقیم ہو چکا ہوں، اس لیے صرف فرض دوبارہ پڑھ لیے، اب سوال یہ ہے کہ تراویح اور وتر کا بھی اعادہ کرنا ہو گا یا نہیں؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

حالتِ اقامت میں عشا کی نماز دور کعت ادا کرنے، نیز تراویح اور وتر پڑھنے کے بعد یاد آیا کہ میں مقیم ہوں، تو اس صورت میں فرض دوبارہ پڑھنا ضروری ہے اور وقت کے اندر تراویح کی نماز بھی دوبارہ پڑھی جائے گی۔ وقت ختم ہو گیا تو اب تراویح کی نماز کا اعادہ نہیں کیا جائے گا۔ وتر ہو گئے، وہ دوبارہ نہیں پڑھے جائیں گے۔

تبیین الحقائق میں ہے: ”لوتبین ان العشاء صلواہا بلا طہارة دون التراویح والوتر اعادوا التراویح مع العشاء دون الوتر“ ترجمہ: اگر بعد میں پتہ چلا کہ عشا کے فرض بغیر طہارت ادا کیے تھے نہ کہ تراویح اور وتر، تو عشا کے ساتھ تراویح کی نماز کا اعادہ کریں نہ کہ وتر کا۔ (تبیین الحقائق، کتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، جلد 1، صفحہ 444، مطبوعہ مکتبہ محمدیہ آباسین روڈ چمن)

عالمگیری میں ہے: ”لوتبین ان العشاء صلاہا بلا طہارة دون التراویح والوتر اعادوا التراویح مع

العشاء دون الوتر۔۔ اما اعادۃ التراویح وسائر سنن العشاء فمتفق علیہا اذا کان الوقت باقیاً“ ترجمہ: اگر بعد میں پتہ چلا کہ عشا کے فرض بغیر طہارت ادا کیے تھے نہ کہ تراویح اور وتر تو عشا کے ساتھ تراویح کی نماز کا اعادہ

کریں نہ کہ وتر کا۔۔۔ بہر حال تراویح اور عشاء کی تمام سنتوں کے وقت باقی ہونے کی صورت میں دوبارہ پڑھنے پر اتفاق

ہے۔ (عالمگیری، کتاب الصلاة، باب النوافل، فصل فی التراویح، جلد 1، صفحہ 128، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ، بیروت)

بہار شریعت میں ہے: ”اگر بعد میں معلوم ہوا کہ نماز عشاء بغیر طہارت پڑھی تھی اور تراویح و وتر طہارت کے ساتھ

تو عشاء و تراویح پھر پڑھے، وتر ہو گیا۔“ (بہار شریعت، جلد 1، صفحہ 689، مطبوعہ مکتبۃ المدینہ، کراچی)

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ



Darul-iftaAhlesunnat (Dawat-e-Islami)



www.daruliftaahlesunnat.net



[daruliftaahlesunnat](https://www.facebook.com/daruliftaahlesunnat)



[DaruliftaAhlesunnat](https://www.youtube.com/DaruliftaAhlesunnat)



[Dar-ul-ifta AhleSunnat](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daruliftaahlesunnat)



feedback@daruliftaahlesunnat.net